

اکثر پوچھے گئے سوالات - PACL لمینڈ کے معاملے میں

پس منظر:

1. PACL لمینڈ، (PACL) نے متعدد کلیکٹو انویسٹمنٹ اسکیمز [Collective Investment Schemes (CIS)] سے کل ملا کر 49000 کروڑ روپے (تقریباً) اکٹھا کرنے/تلاش کر کے استعمال کرنے کی جوابدہی حاصل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ SEBI نے مورخہ 22 اگست 2014 کے فرمان کی معرفت یہ اقرار کیا کہ PACL کی اسکیمیں CIS کی نوعیت میں ہیں اور منجملہ اور چیزوں کے تین ماہ کی مدت کے اندر پیشکش کی شرائط کے مطابق اکٹھا کردہ وہ رقم منافع کے ساتھ واپس کرنے کی ہدایت دی ہے جو ان کے گاہکوں پر بقایا ہیں۔

2. PACL اس کے پروموٹرز/ڈائریکٹرز نے آنریبل سیکریٹریز اپیلیٹ ٹریبونل [Securities Appellate Tribunal (SAT)] کے پاس اپیل کی، جس نے ان کی اپیل مسترد کر دی اور SEBI کے فرمان کو برقرار رکھا۔ مورخہ 14 اگست 2015 کے فرمان سے پریشان ہونے کے بعد SAT کے احکامات پر اعتراض کرتے ہوئے آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے اپیلیٹ پیش کی گئی ہیں۔

3. آنریبل سپریم کورٹ نے PACL لمینڈ بنام سیکوریٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (دیوانی اپیل نمبر 13394/2015) اور دیگر متعلقہ معاملات میں مورخہ 02 فروری 2016 کے اپنے فرمان کی معرفت، آنریبل مسٹر جسٹس (ریٹائرڈ) آر ایم لوڈھا (R. M. Lodha) (سابق چیف جسٹس آف انڈیا) کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جس نے کمیٹی کو PACL کی ٹائٹل ڈیڈز کی ملکیت حاصل کرنے، PACL کے گاہکوں کو لوٹانے کے لیے املاک کو فروخت کرنے کی اجازت دی۔

4. اس لحاظ سے، کمیٹی CBI سے PACL کی املاک والی دستاویزات اکٹھا کرنے کے عمل میں ہے تاکہ PACL کے گاہکوں کے اصل ہونے کی توثیق کرنے کے بعد، ان کو ریفرنڈ کرنے کے لیے املاک کو فروخت کرنے کی کارروائی شروع کی جائے جنہوں نے PACL لمینڈ کی متعدد اسکیموں میں سرمایہ کاری ہے۔ اس بیچ PACL کے گاہکوں کو مطلع کر دیا گیا ہے اور پبلک نوٹس کے ذریعہ انہیں مطلع کر دیا گیا ہے؛

(i) PACL لمینڈ کی اسکیموں میں اپنی سرمایہ کاریوں کے ریکارڈز/دستاویزات کو PACL لمینڈ یا کسی دوسرے شخص کے ساتھ نہیں ملانا ہے اور/یا اس کا اشتراک نہیں کرنا ہے، جب تک اس ضمن میں کمیٹی کی جانب سے آئندہ اطلاع نہ ملے؛ اور

(ii) PACL لمینڈ میں کوئی نئی سرمایہ کاری نہیں کرنی ہے یا اسے یا اس کے افسران/ایجنٹوں وغیرہ کو قسطوں کے سلسلے میں کوئی ادائیگی نہیں کرنی ہے۔

1. میں PACL کا گاہک ہوں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟

جواب۔ عوامی نوٹس مورخہ 05.03.2016 کے ذریعہ PACL کے گاہکوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اپنی اصل دستاویزات اپنے پاس رکھیں۔ یہ چیز تشکیل شدہ کمیٹی یا نامزد اتھارٹی کو PACL کے گاہکوں کی جانب سے دعوے طلب کرنے والی کمیٹی کے ذریعہ مخصوص اشارہ کیے جانے پر دی جا سکتی ہے۔ ریفرنڈز کا دعویٰ کرنے کے لیے اصل دستاویزات جمع کروانا ضروری ہے جس کے بعد ریفرنڈ کے کسی بھی دعوے پر غور نہیں کیا جائے گا۔

2. مجھے ریفرنڈ کے لیے اپنی درخواست کہاں بھیجنی چاہیے؟

جواب۔ SEBI/کمیٹی PACL کے گاہکوں سے دعویٰ/دعوے طلب کرتے ہوئے اشتہارات/عوامی نوٹس کی معرفت PACL کے گاہکوں کو مطلع کرے گی۔ اس طرح کے اشتہار/عوامی نوٹس تک، گاہکوں کو اصل دستاویزات اپنے پاس رکھنے اور کسی بھی شخص، ایجنٹ وغیرہ کے ساتھ اس کا اشتراک نہیں کرنے، انہیں منتقل نہیں کرنے، یا ان کے حوالے نہیں

کرنے کی صلاح دی جاتی ہے۔

3. مجھے ریفرنڈ کے لیے اپنی درخواست کب اور کہاں بھیجنی چاہیے؟

جواب۔ PACL کے گاہکوں کو صلاح دی جاتی ہے کہ مخصوص اشارہ کیے جانے پر، ریفرنڈ کی درخواست [Application for Refund (AfR)] لازمی دستاویزات کے ساتھ حسب تعین، اشتہار/عوامی نوٹس میں مذکور/بیان کردہ پتے پر/اتھارٹی کے پاس جمع کرائی جائے گی۔

4. SEBI کس وقت PACL لمیٹڈ کے گاہکوں کی جانب سے دعوے طلب کرے گی؟

جواب۔ PACL کی املاک فروخت کر دیے جانے اور معقول رقم دستیاب ہو جانے کے بعد ریفرنڈ کے مقصد سے PACL کے گاہکوں کی جانب سے دعوے طلب کیے جائیں گے۔ کمیٹی کے ذریعہ متعین کردہ فارمیٹ میں ریٹرن کے لیے درخواست دینے کے واسطے کمیٹی گاہکوں کو بلائے گی۔

5. میری اسکیم کی میچورٹی کی تاریخ پہلے ہی نکل گئی ہے اور PACL کے ایجنٹس میری سرمایہ کاری کے لیے مجھے متبادل انسٹرومنٹس/اسکیمیں پیش کرنے کو تیار ہیں، براہ کرم مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہے؟

جواب۔ یہ رائے دی جاتی ہے کہ اصل دستاویزات سنبھال کر رکھیں اور اس کی درخواست کیے جانے پر ریفرنڈ کے لیے اسے جمع کروائیں۔ یہ رائے دی جاتی ہے کہ موجودہ سرمایہ کاریوں کو ان کی کسی بھی دوسری اسکیموں میں، اگر کوئی ہو تو، تبدیل کرنے یا بدلنے کے لیے PACL یا ان کے ایجنٹوں سمیت کسی بھی شخص کی جانب سے کسی دباؤ میں نہ آئیں۔ آنریبل سپریم کورٹ کے فرمان کے ذریعہ PACL کی املاک فروخت کرنے کے بعد PACL کے اصل سرمایہ کاروں کو ریفرنڈز کرنے کی بابت کمیٹی پر اعتماد ظاہر کیا گیا ہے۔ بیان کردہ جہت سے انحراف کرنے کے لیے کسی بھی شخص کے ذریعہ کی گئی کوئی بھی کوشش آنریبل سپریم کورٹ کے فرمان کی خلاف ورزی ہے اور اسی وجہ سے اس کی رائے نہیں دی جاتی ہے۔

6. اس بیچ مجھ سے کیا کرنے کی توقع کی جاتی ہے؟

جواب۔ آپ SEBI/کمیٹی کے ذریعہ دیئے گئے کسی پریس ریلیز/اشتہار وغیرہ کے مدنظر اخبار وغیرہ پر نگاہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ SEBI کی ویب سائٹ www.sebi.gov.in پر بھی نگاہ رکھ سکتے یا درج ذیل ٹول فری ہیلپ لائن نمبر 1800 266 7575 یا 1800 22 7575 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔